

برائے فوری اجراء

## اس رمضان مبارک کے دوران برامپٹن اپنی متنوع کمیونٹی کی خوشیوں کو ورچوئل طور پر منا رہا ہے

برامپٹن، آن (12 اپریل 2021) – سٹی آف برامپٹن رمضان المبارک کے دوران اپنی خوبصورت متنوع کمیونٹی کی خوشیوں کو 13 اپریل تا 12 مئی تک پورا مہینہ ورچوئل طور پر منائے گا جس میں بروز پیر مورخہ 19 اپریل کو شام 7 تا 8:30 تک افطار کی ایک خصوصی تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔

رمضان المبارک کا مہینہ دین اسلام کو ماننے والی ہماری مسلمان کمیونٹی کے لیے روزوں، تزکیہ نفس اور عبادات کا ایک مقدس مہینہ ہے۔ چونکہ فی الوقت برامپٹن میں صوبے کی جانب سے گھر پر ٹھہرنے کا حکم لاگو ہے، لہذا رہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ تمام تقریبات کو محفوظ طریقے سے منائیں اور رمضان کے دوران منصوبہ بند آن لائن سرگرمیوں میں حصہ لیں، بشمول درج ذیل:

- رمضان المبارک کے دوران ضرورت مندوں کی مدد کے لیے، خراب نہ ہونے والی کھانے پینے کی اشیاء کے لیے برامپٹن فوڈ بینک سے تعاون کریں اور کھلونوں کے عطیات بھی جمع کرائیں
- کمیونٹی کی گزارشات کے ذریعے رمضان مبارک کا ثقافتی پہلو اجاگر کرنا
- رمضان المبارک کے موقع پر برامپٹن کے مقامی کاروبار اور ان کی مدد کرنے کے طریقوں پر روشنی ڈالنا
- برامپٹن کی ایک مسجد کا ورچوئل ٹور اور مقامی امام کی جانب سے پیغام
- رمضان کے کھانوں کی ترکیبیں، صحت و تندرستی کے مشورے

رمضان المبارک کے دوران مسلمان کمیونٹی کے لوگ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے۔ غروب آفتاب کے بعد کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس سے مسلمان اپنا روزہ افطار کرتے ہیں۔

اس سال کے افطار میں میئر پیٹرک براؤن اور کونسل کے ممبران کی جانب سے استقبالیہ پیغامات اور کمیونٹی کے رہنماؤں اور مقامی اماموں کے پیغامات شامل ہیں۔ اس اہتمام میں تلاوت قرآن کریم، ترغیبی تقاریری، نعتیہ کلام، رمضان المبارک کی روح کے حوالے سے ایک اہم پیغام، دعا، اذان (نماز کے لیے بلاوا) اور شام 8 بجے افطار کا اہتمام کیا جائے گا۔

لوگ رمضان المبارک کا تجربہ آن لائن طور پر 13 اپریل تا 12 مئی تک کر سکتے ہیں۔ حصہ لینے کے لیے، ملاحظہ کریں:

[brampton.ca/experienceramadan](http://brampton.ca/experienceramadan)

کونسل نے شور کے حوالے سے 2020 میں برامپٹن کے ضمنی قوانین سے عبادت گاہوں کو مستثنیٰ قرار دینے کے حق میں ووٹ دیا تھا، تاکہ عبادت گاہوں میں آوازوں، گھنٹیوں یا جھنکاروں کی اجازت ہو۔ اس سال ایک مرتبہ پھر، مساجد میں شام 8 بجے یا غروب آفتاب کے وقت اذان کے لیے آواز اونچی کرنے کی اجازت ہو گی۔ خصوصی رہائشوں کی درخواست کرنے والے کمیونٹی گروپس یا مذہبی تنظیمیں 311 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ منظوری دینے کے لیے، کونسل اور سٹی کا عملہ درخواستوں کا جائزہ لے گا۔

### اقتباسات

"ہم نہایت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس یہاں برامپٹن میں حیرت انگیز طور پر ایسی متنوع کمیونٹی موجود ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں متنوع ثقافت کے دلکش پہلوؤں مثلاً رمضان جیسے مقدس مہینے کی اہمیت کو پہچاننے اور اس کی خوشیاں منانے کا موقع میسر آیا ہے۔ اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے اور شہر بھر میں موجود ہماری متنوع کمیونٹیز میں سے اس کے ماننے والوں کی تعداد 60,000 سے زیادہ ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"میں شہریوں کو ترغیب دوں گا کہ وہ اس سال رمضان مبارک کا ایک ورچوئل تجربہ کریں اور آن لائن طور پر منصوبہ بند کی گئی کئی سرگرمیوں میں سے کچھ میں حصہ لیں۔ صوبے کی جانب سے گھر میں ٹھہرنے کے حکم کے دوران، لوگ اپنے گھروں کے محفوظ ماحول میں رہ کر رمضان کی خوشیوں کا اہتمام کر سکتے ہیں۔"

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

**میڈیا کنٹیکٹ**

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)